

PERACETIC ACID (stabilized)	پریسوکٹ ایسڈ (مشتمل شدہ)	ICSC: 1031
CAS # 79-21-0 RTECS # SD8750000 UN # 3105 EC # 607-094-00-8 EINECS# 201-186-8  UN Hazard class: 5.2	Peroxyacetic acid  Ethaneperoxoic acid : Acetyl hydroperoxide C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>3</sub> / CH <sub>3</sub> COOOH  سالماتی وزن: 76.1	دگل نام : فارمولہ :
ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو پانہ  پانی کا سہرے کریں	بچاؤ  کھلے شلخے، بینکاری اور سکریٹ نوشی تختی سے منع میں۔ آش گیر اشیاء قریب مت لائیں۔ گرم سطحوں کے ساتھ بالکل نہ پھوپھوئی۔	خطے کی قسم  آش گیر، دھاکہ نیز۔ مادہ آگ:
آگ لگنے کی صورت میں ڈرمون وغیرہ پانی کا پھرنا کا وکر کے ٹھنڈا رکھیں۔ آگ لگنے کی صورت میں، سلندر کو پانی کا پھرنا کا وکر کے ٹھنڈا رکھیں، لیکن پانی کو مادے ملانے سے بچانیں	40.5 سنتی گریڈ سے اوپر بند سٹم ہوا کی آمدورفت اور دھاکہ پر دفت بھل کے آلات استعمال کریں	دھاکہ: 40.5 سنتی گریڈ سے اوپر بند سٹم ہوا کا دھاکہ نیز آمیزہ بن سکتا ہے
تازہ ہوا میں لے جائیں، آرام دلائیں ٹیکٹ لگا کر لائیں طبی بندگاشت کا تنقیم کریں نوٹ دیکھیں	ہوا کی آمدورفت، لوکن ایگرداست یا آلات تنفس کا تنقیم کریں	سانس کے راستے: جلن اسال سانس لینے میں مشکل سانس کی خرابی گلے کی خرابی علامات دیر بعد ظاہر ہو سکتی ہیں (نوٹ دیکھیں)
پہلے انفر مقادر میں پانی اور بہائیں: پھر کچھے آتائیں، پھر پانی بہائیں طبی بندگاشت کا بندوبست کریں	خافتی دھانے استعمال کریں خافتی لباس استعمال کریں	جلد کے راستے: جم بدب کر سکتا ہے سرفی جلن کا احساس آبے جلد پر حلٹنے کے زخم
پہلے کجھی منٹ تک پانی سے ابھی طرح دھوئیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔	پھرے کی شیڈ استعمال کریں اسکھوں کی خافتی کے ساتھ آلات تنفس استعمال کریں	اسکھوں میں پڑنا: سرفی۔ درد۔ شدید گھرے زخم۔
پانی سے منہ اندر سے صاف کریں سے مت دلوائیں پانی میں Activated charcoal گھول کر پلاکیں۔	کام کے دوران خود دفعہ اور سکریٹ نوشی مت کریں	نگلے کی صورت میں: پیٹ میں درد۔ جلن کا احساس۔ صدمہ یا شدید نقاہت۔
پیک کرنا اور لیبل لگانا:	بکھرنے کی صورت میں اقدامات:	
[B, D] نوٹ دیکھیں	خطہ ناک ملاٹ فوراً عالی کر دیں کسی باہر سے مشوہد کریں رستے ہوئے مان کو پلاسٹک سیل ہو جانے والے (ڈوں یا برتوں میں اکھٹا کریں)۔ کے تجھیں مان کو یاریت وغیرہ میں بذب کر کے مخفوظ بگپ پہنچا دیں۔ لکوی کے برادے یا دوسرا آش گیر مادوں میں بذب نہ کریں بدو میں نہ بہائیں لکوی کے برادے یا دوسرا آش گیر مادوں میں بذب نہ کریں اس کیسیکل کو ماحول میں داخل نہ ہونے دل غیر معمومی ذاتی تحفظی کے شروتوں کیمیائی تحفظی کا لباس میں خود کا آہ تنفس استعمال کریں	
ذخیرہ کرنا:	ہنگامی اقدامات:	
غیر آش گیر عالت میں رکھیں آگ بھانے کے دوران پیہا ہونے والے فصلے پر قابو پانے کا اتنقیام کریں۔ آش گیر اور تخفیفی اشیاء سے عیینہ رکھیں ناموافق مادوں کیمیائی خطرات میں دیکھیں صرف مشتمل عالت میں اور سرد عالت میں رکھیں	Transport Emergency Card: TEC (R)-[52G01b] NFPA Code: H[3]; F[2]; R[4]; [ox]	
اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں		

PERACETIC ACID (stabilized)	پرائیٹ ائسید (محکم شدہ)	ICSC: 1031
اہم معلومات		
<p>جم میں داغلے کے راستے: یہ مادہ جنم میں سانس کے ذریعے جلد کے راستے لگنے پر بذب ہو سکتا ہے سانس کے راستے داغلے کے اثرات: 20 سنی گریڈ پر اس کی مقدار کے ہوا میں خڑاک دستک پتھنے کی رفتار کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا مختصر مدت کے لیے جنم میں داغلے کے اثرات: جلد پر آنکھوں میں سانس کی نالی میں شدید زخم کا اندریشہ ہے لگنے پر گلنے کا اندریشہ۔ کے سانس کے ذریعے اندر جانے پر پھینپھڑوں میں پانی بھر سکتا ہے (نوٹ دیکھیں)۔ طویل مدت کے لیے جنم میں داغلے کے اثرات:</p>	<p>طبعی حالات: بے رنگ مائع مخصوص بوج کے ساتھ کمیابی خطرات: رگزیا ضرب لگنے سے دھاکے کے ساتھ تخلیل ہونے کا خطرہ ہے۔ گرم کرنے سے دھاکہ ہو سکتا ہے۔ یہ مادہ طاقتوں مکیدی عامل ہے اور آتش گیر اور تخفیفی مادوں کے ساتھ شدت کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ یہ مادہ کمزور تیزاب ہے۔ اور دھاکوں بالخصوص ایلوینیم کو نقصان پہنچاتا ہے پر جملہ آور ہوتا ہے۔</p> <p>ہوا میں مقررہ حدود: TLV معین نہیں کی گئی ہے MAK موجود نہیں</p>	
طبعی خواص		
<p>فلدیش پاٹنٹ: 40.5°C o.c. 20 سنی گریڈ پر بھارت کی کثافت اضافی (بمقابلہ ہوا = 1): 1.04 خود خوداں گا بھڑکنے کا ٹپ پتھر: [200] سنی گریڈ دھاکہ خیزی کے لیے ہوا میں فی صد مقدار: see Notes log pow کے طور پر اونٹانول بمقابلہ پانی پارٹیشن کو فیشنس: دیگر معلومات:</p>	<p> نقطہ جوش : [ 105 ] سنی گریڈ  نقطہ پگلاو: [ 0 ] سنی گریڈ  کثافت اضافی (بمقابلہ پانی = 1): 1.2  20 سنی گریڈ پر بھارتی پریشر: [ 2.6 ] Kpa  بھارت کی کثافت اضافی: 2.6</p>	
ماتولیاتی اعداد و شمار		
یہ مادہ آبی جانداروں کے لئے احتیاطی زبردیلا ہے		
نوٹس (Notes)		
<p>دھاکہ خیزی کی حدود لزم پتھر میں موجود نہیں حالانکہ یہ مادہ آتش گیر ہے اور اس کا فلدیش پاٹنٹ 61 سنی گریڈ سے کم ہے خراب شدہ کپڑوں (جو گاں پکڑ سکتے ہیں) کو پانی سے ابھی طرح سے صاف کریں پھینپھڑوں میں پانی بھرنے کے آثار کمی گھٹنے بعد ظاہر ہوتے ہیں لہذا مکمل آرام اور طبی بندگاشت ضروری ہے اگر کوئی Inhibitor Stabilizer یا اس میں شامل ہو تو اس کی زبردیلی خصوصیات میں تبدیلی ہو جاتی ہے</p>		
مزید معلومات:		
LEGAL NOTICE	Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.	
© IPCS, CEC 1999		
IPCS International Programme on Chemical Safety	    	
<p>Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the Commission of the European Communities C IPCS, CEC 1999</p>		